

ضمیمہ اردو کلیات نظم حالی

مشتمل بر نظم و نثر فارسی و عربی

الطائف حسين حالي

ضامیہ و کلیاتِ نظمیں

مشتمل ہے

Checked
1987

نظم و نثر فارسی و عربی

جو ابتدائے سن تیز سے ۱۳۲۲ھ تک مختلف اوقات میں
عالیجناب شمس العلماء مولوی حافظ خواجہ الطواف حسین صاحب عالی
کے کلک جہ اہر سلاک سے تراوش پائی رہیں
اور اب فادہ عام کیلئے

حسب مالیش جناب حافظ محمد صاحب مجددی پانی پتی



فاکار حافظ عبد السلام بیک نے اپنے

ہندوستان کی فہرست کتب و کتابخانوں کی

فہرست مضامین ضمیمہ اردو کلیات نظم حالی

نمبر	مضمون	صفحہ	نمبر	مضمون	صفحہ
۱	تہنید	۱	۱۵	قطعہ تاریخ وفات قبل از وقت سید محمود علی مرحوم	۱۵
				خلف سید میر علی ہبیبہ امین برادر سید احمد علی	
				ہمارے کہ از طلبہ شہید کابینا محمد علی علی گڑھی	
۲	غزلیات	۵	۱۶	قطعہ بڑھات وزیرالہدایہ سید محمد حسین خان	۱۶
۳	تخمیں غزل نعتیہ جناب مرزا غالب مرحوم		۲۹	مرحوم قیصریہ است پشیاں	۲۹
	کہ در حیات ایشان کو شتہ شدہ ہو		۱۷	قطعہ مرحومہ وفات جناب شیرالہدایہ خلیفہ	۱۷
				سید محمد حسین خان مرحوم برادر خود وزیرالہدایہ	
۴	رباعیات	۱۸	۱۸	قطعہ بیشتر خطاب بیانیہ حضرت غالب مرحوم	۱۸
۵	در شکر بہرمان نوازی قاضی محمد خلیل صاحب		۱۹	قطعہ دیگر	۱۹
	بریلوی کہ در زمانہ قحط در بریلی گفتہ شد		۲۰	ترجمہ ہند	۲۰
۶	در شکر لطف عنایت سید کرامت علی مرحوم		۱۹	مرثیہ نواب مختار الملک مرزا لاریجک میر	۲۱
	صفا تخلص ہنگام و اج از پشیاں		۲۰	نواب علیخان محمد دارالمہام سرکار عالی نظام کہند	۲۱
۷	دعا و تیل خواجہ مولانا شبلی مدظلہ		۲۰	طرف کبھی تعلیمی رشتہ اعلوم علی گڑھ اشاعت یافتہ	۲۲
۸	در تاسف بڑھات یکی از فرزندان ہمایون		۲۰	تصیہ و تہنیت عید الفطر جناب نواب سر	۲۲
	کشن پر شاہ دیوار دارالمہام سرکار عالی تخلص شاہ		۲۰	آسمان چاہ ہمارے مرحوم	۲۳
۹	رباعیات در شکر شہیرہ شیری رسدہ مولوی عبدالحی		۲۰	قطعہ در تہنیت عید الفطر جناب نواب سر	۲۳
	خان صاحب آگرہ و فیہ نظم کلج در حیدرآباد		۲۰	ہمارے دارالمہام سرکار عالی نظام	۲۳
۱۰	در شان نواب شہید الدین احمد خان مرحوم		۲۱	قطعہ در سپاس لطف و کرم جناب کرنل خان	۲۳
	دہلوی تخلص بہ قیصر قادسی در شان ہمدرد		۲۱	دقیقہ خان ادارہ تعلیم پنجاب رست ایشان	۲۳
	خطاب حضرت ممتاز مرحوم		۲۵	ترتیب ماہ نامے جلالی و نظم	۲۵
۱۱	قصائد و قطعات وغیرہ	۲۲	۲۴	فہرست	۲۴
۱۲	تصیہ و درجہ جناب مخدوم آغا علی الرحمن		۲۴	شکر یہ مشورہ شوق فہرست پرست از طرف عزیز	۲۴
	الشرفین نواب گل علیخان مرحوم رئیس		۲۸	انشار الصدقات مرحوم دہلوی	۲۴
	مصطفی آباد در رام پور		۲۸	قطعہ طبع و دیوانہ نثری اقبال حسین صاحب عاشق	۲۸
۱۳	قطعہ بروقات آرزوی نواب محمد علیخان مرحوم		۲۹	تصیہ و در شان جناب مستطاب بہرہ جی امیر	۲۹
	متخلص بہ مشکلی رئیس جہانگیر آباد فیہ نظم		۲۹	حبیب اللہ خان الی دولت خداداد و قائلستان	۲۹

صفحہ	مضمون	نمبر	صفحہ	مضمون	نمبر
۵۱	قطبہ تاریخ تعمیر چاہ بنا کر ہدیہ محمد زکی	۲۵	۳۰	دشکریہ اور سی عالی جناب ہر انشائیہ	۳۰
۵۱	رئیس سوئی پت	۲۶	۳۱	آزادیل نواب سید علیخان بہادر مستحق	۳۱
۵۱	قطبہ بروقات مولوی چراغ علی مرحوم	۲۶	۳۲	والی میاست رام پور	۳۲
۵۲	قطبہ تاریخ وفات جناب خواجہ کرم علی	۲۷	۳۳	ترکیب	۳۳
۵۲	صاحب مرحوم جو حافظ محمد یعقوب صاحب	۲۷	۳۴	مرثیہ جناب تھاپ اور الدولہ عاقبہ جنگ	۳۴
۵۲	محمدی کی فرمائش سے لکھا گیا تھا۔	۲۷	۳۵	ڈاکٹر سید علیخان غفلو	۳۵
۵۳	نشر فارسی	۲۸	۳۶	قطبہ دشکریہ صحت یابی شمس العلماء سوانا شیلی	۳۶
۵۳	دیباچہ سفر نامہ حکیم نامہ خسرو متین سوانا شیلی	۲۹	۳۷	نمازی۔	۳۷
۵۳	حکیم موصوف کہ بخلاف تذکرہ نگاران شیخین	۲۹	۳۸	عیدی شب برات	۳۸
۵۳	حقائق واقفیت از سفر نامہ دیوان شعراد	۲۹	۳۹	قطعات تاریخ و مختلف واقعات	۳۹
۵۳	ہستہ باطکر وہ بصحت ہرچہ تمام تر نوشتہ	۲۹	۴۰	تاریخ	۴۰
۵۳	شہ است۔	۲۹	۴۱	قطبہ تاریخ طبع دیوان میر محمدی جبریل بلوی	۴۱
۵۳	ترجمہ بعضی از مقالات حکما کے اردو پاراز	۳۰	۴۲	تاریخ بنائے مکان سید عوض علی مرحوم	۴۲
۸۰	انگریزی و پارسی	۳۰	۴۳	چارچہ شعلہ بلند شہر انور	۴۳
۸۰	ترجمہ و تہذیب بعضی از مضامین نقیہ	۳۱	۴۴	قطبہ تاریخ مسجد واقع سوئی پت انور	۴۴
۸۰	محاسن الاخلاق مرتبہ جناب شیخ بہادر شمس	۳۱	۴۵	تاریخ بقات محمد ابراہیم جو اس مرگ طالب علم	۴۵
۸۰	مولوی فکار احمد مرحوم از اردو در پارسی	۳۱	۴۶	بی اسے کلاس دہلی کلج	۴۶
۸۲	حالیہ ایران۔	۳۱	۴۷	تاریخ بہ پایاں رسیدن نکتہ سید مریدی	۴۷
۸۲	کبر و خود پسندی	۳۲	۴۸	مرحوم رئیس گلادوشی قد بلند شہر	۴۸
۸۲	شجاعت	۳۲	۴۹	تاریخ اورنگ زیبی حضور آصف چاہ نظام	۴۹
۸۵	مناصب جلیکہ	۳۲	۵۰	الملک سادوس سپہ محبوب علیخان بہادر	۵۰
۸۵	ہج و دستاویز	۳۳	۵۱	فرمان دوائے ملک کن غلام احمد ملک	۵۱
۸۶	مشق دھارت	۳۳	۵۲	تاریخ رحلت جناب نواب ضیاء الدین احمد صاحب	۵۲
۸۸	رسوبیت و ناگاہی	۳۳	۵۳	صاحب مرحوم و بلوی رئیس لوہارو	۵۳
۹۰	تعلیم	۳۳	۵۴	تاریخ بنائے مہل سرتے در موضع سوئی پت	۵۴
۹۰	علم خدکات	۳۳	۵۵	پنجاب بحساب سال عیدی	۵۵
۹۲	خود کشی	۳۳	۵۶	تاریخ بنائے باغ در موضع تہہ ضلع مظفرنگر	۵۶
۹۲	زندگیاں فخرہ	۳۳	۵۷	مرثیہ یادہ سید فیاض علیخان رئیس تہہ	۵۷
۹۵	دوستی	۳۳	۵۸		۵۸

صفحہ	مضمون	نمبر	صفحہ	مضمون	نمبر
	بقاؤم کی شادی کھڑائی کے موقع پر بلوچیا کی		۹۵	ختم پرترازیو پوانی است	۶۳
۱۱۹	بیاری کی حالت میں لاہور میں بھی گئی تھی		۹۶	عجبت مادی	۶۴
	حقیقی کی آیات و ہدی کے اجاب کو لاہور کے کھکر	۸۰	۹۶	استہزاء	۶۵
۱۲۱	بھی گئی تھیں۔			عجارت گنا پر لے مرقد مرحوم سید	۶۶
	نظم عربی کا ردی صاحب کی شان میں لکھی گئی	۸۱	۹۷	امیر علی رئیس دہلی بظفر لسنہ	
۱۲۲	تھی جبکہ وہ قائم مقام ڈاکٹر شری شری قلم تھے			لوح کتبہ مرقد مرزا اتھی بخش مرحوم کہ جب	۶۷
	نظم عربی مبارک باوشادی کھڑائی مرزا شریا	۸۲	۹۸	اقران مرزا سیماں جاہ صاحب نوشتہ شد	
۱۲۳	صاحب گوگانی			نثر تہذیب	۶۸
۱۲۵	قصیدہ بانیہ در شان حضرت شاہ عبدالغنی رح	۸۳	۹۹	تقریظ دیوان فارسی حضرت مسرتی رح	۶۹
	مبارک یاد خطاب فہم العلماء بچنا مے لانا شیلی	۸۴		تعالی کہ در سال ہزار و ہشتصد و مفتاد و	
۱۲۸	نعمانی کہ در علی گڑھ نوشتہ شد		۹۹	مسیحی دیر زمان حیات مصنف منظور شد	
۱۲۹	نثر عربی	۸۵	۱۰۳	تقریظ دیوان سالک	۷۰
	حضرت نامہ موسویہ حضرت مولانا مہتمم	۸۶	۱۰۶	تقریظ دیوان خلق	۷۱
	شاہ عبدالغنی قلم سرکہ ہا قصیدہ بانیہ در			عرضداشت بظہور ذاب کلب علیخان ہاؤ	۷۲
۱۲۹	مدینہ منورہ ارسال داشتہ بود			رئیس مام پور در شکر جلیبہ دیوان فارسی مرحوم	
۱۳۰	دوسرا خط جناب ممدوح کے نام الخ	۸۷		برہ ستیوئے خاقانی و مجموعہ نثر فارسی مرحوم	
۱۳۱	کتوب بنام مرزا اشرف بیگ مرحوم دہلوی	۸۸	۱۰۹	ہدوتہ التاج	
۱۳۲	کتابہ آخری	۸۹	۱۱۰	ایضاً	۷۳
۱۳۳	کتابہ آخری اولیٰ بعد المعادۃ الخ	۹۰		عرضہ بنام نامی جناب مرزا اسد اللہ خاں	۷۴
۱۳۴	کتابہ آخری علی مدیر البحرینہ و الخ	۹۱		غالب بیان معنی شعر نظیری کہ جناب ممدوح	
۱۳۵	صورۃ ما نقلت علی اللطووات الضیائیہ الخ	۹۲		آرا ناقص العیادہ نظری قرار دادہ بودند	
۱۳۸	خطبہ الحجۃ	۹۳	۱۱۱	حسب ایمائے آنجناب	
۱۳۹	گلستان سعدی کی حکایت کا ترجمہ	۹۴		بنام جناب حافظ قاضی عبدالرحمن مرحوم دہلی	۷۵
۱۴۱	دوسری حکایت	۹۵	۱۱۳	متمخلص بچشمین	
	بنام جناب ازہل علم کہ دیورتہ تعمیر بود و مام	۹۶	۱۱۴	ایضاً	۷۶
۱۴۱	ایشان فرمودہ شد			بنام جناب منشی امیر احمد صاحب مینائی	۷۷
۱۴۲	جلد صاحب	۹۷		نظم عربی	۷۸
	عجبت			نظم عربی جو کھڑائی منشی محمد کرم اسد خان ام	۷۹

صحف نامہ ضمیمہ اردو گلیاست نظم حالی

صفحہ	غلط	صفحہ	صحیح	صفحہ	غلط	صفحہ	صحیح	صفحہ	غلط	صفحہ	صحیح
۱۲	ہالز راپا	۱۲۶	صدائے	۱۸	۸۳	کسیقتہ	سپتہ	۵	۱		
۲	صدق	۱۲۷	صوتیوں میں	۶	۸۴	پاراسے	پاراسے	۱۲	۱۲		
۵	مصیب	۱۲۸	کسانے کہ	۱۵	۸۵	رہجڑی	سجری	نوٹ	۱۶		
۵	تھہری	۱۲۹	سوانح	۱۹	۸۶	مشیر	شیر	۱۰	۱۹		
۸	مہایتہ	۱۳۰	امرا انارفل	۸	۸۷	دواع	دواع	۱	۲۰		
۱۶	تاثرہ	۱۳۱	آن کاروانک	۱۱	۸۸	افقی	افقی	۲	۲۵		
۲	سینغند	۱۳۲	کہ اترادیک	۵	۸۹	یوسف منجان	رؤف طخان	نوٹ	۲۶		
۵	کٹلی	۱۳۳	لا یغبر	۵	۹۰	ستیم	متم	۵	۵		
۱۰	قد رکشت	۱۳۴	جز در کوچہ	۷	۹۱	ایں	ازیں	۱	۳۰		
۱۰	اغلقوہ	۱۳۵	روشیہ بیانی	۲	۹۲	گرفت زنی	گرفت زنی	۱۵	۱۱		
			آمہ و کب	۱۱	۹۳	خلق را	خلق	۱۶	۳۳		
			لطافت بھرا	۱۲	۹۴	آن میراج	آن میراج	۱۷	۳۴		
			ونودیش	۱۸	۹۵	سینجاں	سینجاں	۷	۳۷		
			عالیہ	۹	۹۶	نیت این	نیت این	۱۳	۵		
			من ہم	۹	۹۷	بہرہ برد	بہرہ برد	۱۵	۵		
			دیدار بھال	۶	۹۸	سیریشہ	سیریشہ	۱	۳۰		
			حلا	۱۱	۹۹	را تم خود گیتا	را تم خود	نوٹ	۳۲		
			الشم	۱۲	۱۰۰	آہ اٹل	آہ اٹل	۸	۳۶		
			ابنی	۹	۱۰۱	کوشوہ مانگتہ	کوشوہ مانگتہ	۱	۵۲		
			خفا بڑی	۱۰	۱۰۲	گوس بھیدہ	گوس بھیدہ	۲	۵		
			ازجو	۵	۱۰۳	استنباط	استنباط	۲	۵۳		
			میشیا	نوٹ	۱۰۴	۸۹	۸۹	نوٹ	۵۵		
			پس پس	۵	۱۰۵	سایہ صورت	سایہ صورت	۱۹	۵۹		
			من بقیات	۴	۱۰۶	اندازہ	اندازہ	۵	۵		
			برامیاں	نوٹ	۱۰۷	ستنہ پائہ	ستنہ پائہ	۱۹	۶۲		
			موالات	۲	۱۰۸	خلفائے شلاہ	خلفائے شلاہ	۱۵	۶۸		
			بلعز	۱۳	۱۰۹	کتاہت	کتاہت	۱۳	۶۹		
			بجلا بپ	۲۰	۱۱۰	اور پس اند	اور پس اند	۲	۸۱		

یہاں تک کہ کاپی کسیر شان سمجھتے تھے چنانچہ مذہبی اور علمی کتابیں اکثر عربی
 زبان میں لکھی گئی تھیں۔ مگر رفتہ رفتہ زمانہ کے انقلاب سے وہ میلان کم
 ہوتا شروع ہوا۔ اور آخر کار یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ دونوں زبانوں میں تصنیف تالیف کرنا
 یا نظم و نثر لکھنا موقوف ہی نہیں ہوا بلکہ بقابلہ اردو زبان کے محض فضول سمجھا جانے لگا۔ عربی علم
 و نوبت دن پہلے ملک سے رخصت ہو چکا تھا۔ مگر غالب مرحوم اور ان کے معاصرین کے بعد فارسی
 شاعری اور انشا پر فارسی کا بھی خاتمہ ہو گیا۔

مذکورہ بالا کتاب کے تقریباً سو شہ برس پہلے راقم کو فارسی نظم و نثر لکھنے کا خیال پیدا ہوا
 تھا۔ لیکن ایک عرصہ تک وہ خیال میلان طبع کی حد سے آگے نہیں بڑھا۔ حسن اتفاق سے ۱۸۶۳ء
 میں میرا تعلق جناب مخدوم باب نواب محمد مصطفیٰ خاں مرحوم و منقولہ میں ہو گیا۔ وہ تعلقہ دار جہانگیر آباد
 ضلع بلند شہر کی سکسار میں جو کہ فارسی میں حسرتی اور اردو میں شیفتہ تخلص کرتے تھے۔ ہو گیا۔ اور
 اس تعلق کی وجہ سے تقریباً آٹھ نو برس انکی خدمت میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ چونکہ جناب محدث کا
 قیام ۱۸۵۶ء کے بعد سے زیادہ ترجہا نگیر آباد میں رہنے لگا تھا جہاں مخاطب صحیح کیا تھا۔ اسلئے
 وہ فکر شعریہ بہت کم متوجہ ہوتے تھے۔ لیکن جب راقم وہاں رہنے لگا تو رفتہ رفتہ جناب صحیح
 کا شوق اندر فوتانہ ہو گیا۔ اگرچہ اُس وقت تک مجھ کو فارسی یا اردو میں فکر شعریہ کرنے کا بہت ہی کم
 اتفاق ہوا تھا۔ مگر جناب محدث کو اور متوجہ دیکھ کر میرے دل میں بھی تحریک پیدا ہوئی۔

فارسی یا اردو کی جس زمین میں وہ غزل لکھتے مجھے بھی اپنے ساتھ شریک فرماتے۔ انہیں
 میں تنہائی اور قلمت مشاغل کے سبب بنی ادب کی ہوس بھی نہیں چٹکیاں لینے لگی۔ اگرچہ علم ادب
 کسی اُستاد سے باقاعدہ پڑھنے کا کبھی اتفاق نہ ہوا تھا۔ اور نہ کسی ادیب سے اصلاح لینے کا موقع ملا
 تھا۔ مگر چونکہ لٹریچر سے فی الجملہ نسبت تھی۔ کبھی کبھی ڈکشنریوں کی مدد سے ادب کی آسان آسان کتابیں

لکھنے والے شاعر اور شاعرین کی زبانوں کی عربی نظموں کی طرح عربی اور فارسی کے
 برائے عربی اور فارسی اور ان کے ساتھ عربی نظم و نثر کی جیسا کہ فارسی اور اردو
 زبانوں میں چھاپا کہ فارسی اور عربی کے مخاطب صحیح تمام ملک میں نایاب ہو گئے۔ اور دونوں زبانیں ہندوستان
 کی مروجہ زبانوں میں شامل ہونے کے قابل ہو گئیں۔

یہ تو ظاہر ہے کہ ماہری زبان کے سوا دوسری زبان میں جو نظم یا نثر لکھی جاتی ہے گو کہ وہ کیسی ہی
 بے عیب ہو اور زبان کی نظر میں اسکی کچھ وقعت نہیں ہوتی۔ الا ماشاء اللہ۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ اہل وطن
 کے نزدیک قبولیت کا درجہ حاصل کر لے لیکن جب اہل وطن کسی ملکی انقلاب کے سبب اس غیر زبان سے
 بیگانہ محض ہو جائیں۔ اور اسکی جگہ ملک میں دوسری زبان قائم ہو جائے تو رفتہ رفتہ اسکی شاعری اور
 انشا پر فغانی کلچرل ہمیشہ کے لیے نکل ہو جاتا ہے۔

یہی حال آج کل ہندوستان میں قدسی اور عربی لٹریچر کا ہے۔ دونوں زبانوں کی نظم و نثر کے
 سووے جو کبھی کبھی کے لکھے ہوئے پڑے تھے۔ انکی نسبت متروک تھا کہ انکو کیا کیا جائے تو میں
 کوئی ایسی شخصہ لانا نہیں چاہتا جتنی جہاں افراد قوم کے درکنں اپنے یا اپنے جہت سیاط کے ساتھ
 رکھے جائیں۔ پھر اہل وطن کا ان دونوں زبانوں سے عموماً نا آشنا ہونا اپنے اس قدیم شعر کا مضامین
 یاد دلاتا تھا۔

سخن پر ہمیں اپنے روز پڑے گا۔ یہ دفتر کسیدن ڈوبنا پڑے گا۔
 لیکن مذکورہ بالا سوواں کچھ تو اس جہت سے کہ بڑی کاوش سے لکھے گئے تھے اور زیادہ تر
 اس خیال سے کہ قومی خصیصیات کی یادگار تھے۔ انکو رائیگاں کھونا گوارا نہوا۔ چنانچہ تمام یہی
 ہم پہنچ سکے اور دوسرے فراموش کیے گئے۔ اور قبل کی ترتیب کے ساتھ اس مجموعے میں جو کلیات نظر
 کے آخر میں بطور ضمیمے کے منقح کیا جائے گا۔ داخل کر دیے گئے۔ یعنی اول نظم فارسی۔ اس کے بعد عربی

یہ ضخیمہ اگرچہ کوشش قدسی اور عربی دونوں زبانوں کی نظم و نثر پر مشتمل ہے۔ مگر عربی کلام معنی
تخیل ہے کہ اسکا عدم اور وجود پر ہے۔ حق یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک قصیدہ حضرت مولانا دمقوت زینا شاہ
عبدالعزیز نقشبندی مجددی قدس سرہ کی شان میں نہوتا۔ جو تقریباً ۱۲۸۳ھ ہجری میں مدنیہ منورہ
پہنچا گیا تھا۔ اور جسکی نسبت جناب ممدوح نے بعض اوبائے مدنیہ کی پسندیدگی کا اظہار فرمایا تھا۔ تو
راقم کو ہرگز یہ جرأت نہوتی کہ اپنا عربی کلام اس ضخیمہ میں داخل کرنے کی سہاوت کرتا۔

ذمقلم
پانی پت

حالی

نظم فارسی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

غزلیات

یہ غزلیں اسی زمانے کی ہیں جبکہ خیالات میں کسی قسم کا انقلاب پیدا نہیں ہوا تھا۔ جس قسم کے مفاد میں غزلوں میں اوپر سے بندھتے چلے آتے تھے۔ اسی روش پر چند غزلیں لکھی گئی تھیں۔ جنکو بعد کے چند کے سوا میں اپنے موجودہ خیالات کے موافق پر ایک میں پیش کرنے کے حق نہیں سمجھتا تھا لیکن بعض اہل کلام کے اصرار سے انکو اس مجموعہ میں شامل کرنے پر مجبور ہوا۔

اسے تکیہ بے عقو تو خطا را	وسے ناز بے خوف تو رجھا را
عاجت کند از طرب فراموش	خوانی چو بسوسے خود گدارا
جاد و دل خویش ہم نیابد	رائی ز دولت چو پاوشارا
علت تو بری و باز بندی	بر صنعت و یگواں شفا را
ہائیر زنت و صلحت را	بد نام نموده دوا را
بازار صبا نموده گرم	بر ہم زودہ طستہ دوتا را
باشعلہ ہزار امید	پوشیدہ سراغ دعا را
در روشنی ہزار خورشید	گم ساختہ چشمہ بقا را

برتے ز اُفق بروں چماندہ
 زمیرے بگلوئے جاں نشانہ
 در بر دین سپردا وہ دستے
 از غیر گسستہ اندک اندک
 ہر یک ز حیا س و علم و ادراک
 ہیں پر وہ کہ کثرت کجست ہے
 از آئینہ نام بجز مثال
 ز رخ ز تو بے نمک نخواستیم
 راز تو بلب نمی پسندیم
 از سختی و سرور و تامل
 از شعلہ دل بجاں خبر کن
 ز شمیم ز نسرق تا قدم بست
 کردیم گناہ و فاش گفتیم
 حرف طلبت بلب نہ رسید
 تا بر کریم تو تکبیر دارم
 حالی! چه زنی تو دم ز تو حید
 جانے کہ بجز اعتراف ہے
 اینجا چه مجال لطف باشد
 اینجا جسز خاشی نہ رسید
 ہم پازوہ در ریش گیا را
 لب تشنہ خویش کردہ مارا
 انداز بستان و لربارا
 ولہائے بالفت آشنا را
 از نور تو شد حجاب مارا
 پرواز روئے عالم آرا
 ہم رنگ زوا و ہم جبارا
 ہم درو فرست و ہم دوارا
 ہم ساز بسوز و ہم نو مارا
 دائم گرم ستم نما را
 محفل سنگدار کیمیہ را
 مارا و چشم ما میہ مارا
 پذیر گناہ بے ریا مارا
 انداختم از میاں و عارا
 در راہ فلکندہ ام عصارا
 چون نا بلدی روح خدا را
 خیل عشر فاؤ نبیہ را
 ہر بافہ سیرے زار خارا
 نامحرم سیر تکبیر مارا

از پام بلند پر کہ داری معذور کنش در نارسا را

چوں نهد گوشش بر تراژنا
رو و او پا و ما فسانہ ما
ور و میسب بار و از تراژنا
حذر از گرمی ز پانہ ما
ور و دہا شنیدہ بسیار
اندکے گوشش کن تراژنا
بایدت قدر خویشتن دانست
پاکے بیرون منہ ز خانہ ما
در سرب آب خضر میجوی
اے وفا جستہ و زمانہ ما
گوہرے کز دو کون بیرون است
میتوان یافت در خسراژنا
زیر لب ناکشودہ طوبالیت
کاشش پرسی ز ما فسانہ ما
برق کز طور و اشتد وینغ
سر برد آور و نہ آسشیانہ ما
قد حالی ز قوم کس نشناخت
عاجت رفت از میانہ ما

خاکساری از جانے دیگر است
این زمیں را آسمانے دیگر است
شیخ محبوبت نہ محبوب من است
سجدہ ام ہر آستانے دیگر است
با ہزاراں رنگ باید ساختن
یاردا۔ ہر خط شانے دیگر است
اہل دین معذور و انہم کہ من
انچہ گویم از زبانے دیگر است
ہم تغافل ہم تظاول و ہم
عشق مرد و استخوانے دیگر است
دل کہ بود از چشم مورے تنگ
چل نظر کردم جانے دیگر است

بڑا بدول مدارائے کے	در سر شیش مہیا نے دیگر ہے
بڑہ طیب سنبیل زلفم زیاد	ایں نسیم از پوستلے دیگر ہے
منتہائے راہ عشق اقاوی ہے	شیرل مارا نشا نے دیگر ہے
غیس و راقم مرور راہ من نہیںد	اندیں رہ کاروائے دیگر ہے
من ز رویش حسین حسنی دیدہ ام	انچہ دل بڑو ہے تانے دیگر ہے
کارحالی نیست کار احمد ہے	دریں عشقت را بیانے دیگر ہے

یار با تست گرت جذبہ گیولے ہے	یوسف آخرو آخرا کہ ز لہجائے ہے
سے پسندی کہ ز بیم تو خجل خبر نسیم	بہ سخن گرتواں آدن ایماے ہے
گورہ است گرا دل پنکو ہش محراش	یوسف ہے گرت تا پناشا ہے
گورہیں حسنج بکارم و جہاں منجوہیم	وردل است ہرل کہ تنائے ہے
چہل من غمزہ ناکام ہے با پندیت	ہر گرا و شہباحت غم فردائے ہے
جائے وہ برود خود ورتو برانی از پیش	نتواں یافت کہ در کون مکان بچائے
رنجش با خوشی و لطف مدارات یکیت	خستہ ترا کہ چون کار خچہ درائے ہے
برخند باش گرا اورا بہ سخن سے آری	حالی تفتہ دروں را دم گیرائے ہے

غش تا جاں بود با جاں ضرور ہے و گر خود جاں نباشد آں ضرور ہے

۱۵۰ این صبح از حضرت احمد جام ہے قدس سو کہ در مطلع غزل خود میفرماید *

دریں عشقت را بیانے دیگر ہے مرواں رہ را نشا نے دیگر ہے

ز تکلیف تو دانستم کہ در عشق	نباشد آنچه در امکان ضرورت
چو بستم خواجہ نافرمان نواز است	سرم خمپیدن از فرمان ضرورت
بطبع سازگار افتاد و درکش	مرا پر بسیر از دریاں ضرورت
ز عاشق دوست دارد بسینوائی	گذشتن از سر و سامان ضرورت
کشد چوں تیغ بر سر چاں از قشال	پاسے در خور احسان ضرورت
کنند جذبہ دل در کین است	خلاص یوسف از زندان ضرورت
بفرمانش دہم سرتا بدانند	کہ پاس خاطر یاران ضرورت
چو میرفت از جہان میگفت حالی	قبول عشق را حرمان ضرورت

من دازے دوست پر پیمانہ و یار و لب کشت	نہ ز دروغ بدلم بسم ونہ پرولکے بہشت
ترسم این حسن قبولت بر داندازہ صفا	خواجہ وقتت کہ از کعبہ روی سوئے کفشت
پروہ گر برفتد از نفس حسرت بینی	ہمہ پاکیزہ نہاد و ہمہ پاکیزہ سرشت
گر بگیرد ہمہ عیب است چہ عیب و چہ ہنر	ور پذیرد ہمہ زیباست چہ زیبا و چہ زشت
عمر ما از تو بنا کام بھی باید زیست	واسے آنکس کہ ز کف این امید نہ بہشت
ترسم از کعبہ بری حسرت ویدایہ بخش	اسے فرو مانده بہ نظاۃ سنگ گل و خوششت
ہر قسم را نبود حسن قبول از رانی	ور نہ حافظہ نوشتت است کہ حالی نہ نوشت

صید غنماست پریدیم عجب	راہ دور است دویدیم عجب
بود زہرے بشکر آلودہ	لذت وصل چشیدیم عجب

جذبہ آمد و بر سنزل بُرد	راہ کیچند بُریدیم عیبش
گوش و لب محرمی راز تھا شست	ہر چه گفتند ہنشنیدیم عیبش
بود در خطبہ قرب منہاں آپ بقا	مشتِ خنک ک شیدیم عیبش
دل ہماں بست کدہ پندارست	جانے در کعبہ گزیدیم عیبش
جنبِ دل داشت زماش کون	از پئے ناقہ دویدیم عیبش
عشق از خویش بریدن میخواست	حالی از خلق بُریدیم عیبش

رقہ محشر کہ ز ہر شیخ و برہمن پرسند	سر وہم قصہ شوق تو چو از من پرسند
دل رہا بند و با صبر و شکیب آموزند	جان ستانند ز با باعث شیون پرسند
بگذازد سوسہ عقل کہ ارباب طلب	راہ از غول رہ و چارہ زر ہزن پرسند
چارہ بے خبری نطق مراد کارست	سے بیارند وز من نکتہ ہر فن پرسند
روسے از فرج بہ آل کہ ارباب طلب	گل بینند و سر لغ رہ گلشن پرسند
بندہ را نیست مجال سخن آنجا حالی	ورنہ افسانہ درازست گرا ز من پرسند

بیا کہ جان دل باز غم گرا نہ میخو آہند	ز رشک خار چشیم زمانہ میخو آہند
ز جور باکے تو در سینہ نیست گرد ملا	بصلح باتو سخن در میانہ میخو آہند
خوش است آشتی اما پس از شکایتہما	کہ دوستان گلہ دوستانہ میخو آہند
ادب نہ حرف طلب تبہ است کام ذبا	و گرنہ از تو حرفیاں چمانہ میخو آہند
بگلشنے کہ منم طائران آزاداند	بروں ز کون مکانک شیانہ میخو آہند

شدیم شہرہ عالم بعشق و بیدار
تن قناتہ دران رہگذار سے طلبند
ہمتوز از غم نہماں نشاندہ میخوابند
رسید بزم بہ پایان گو شہا بازست
سر بریدہ بر گل استمانہ میخوابند
نشید حالی جاود ترانہ میخوابند

بے سبب رنجی و گونی گلہ زیبا بنو
سعی اگر نیست بجا ذوق طلب و چه کم است
طاقتِ جوہر تو در حوصلہ ما نبود
مرد صبر بزم و رضا لیک بہنگام ذراع
رہرواں بہ کہ زرقار شکسہ ما نبود
لطیف طاعت چہ بود نسبت گزوق نظر
بازو کے ہمت ما نیز تو انا نبود
نہ پرستم صنمے را کہ خود آرا نبود
مے در در شک عدو پرودہ طاقت نہ
غم عشق تو چنین حوصلہ فرما نبود
مجلس و عطا ماست کہ و ما غمزدگان
کم نشینیم بہ بزمے کہ مدارا نبود
ہمہ غیر میاگر سببالم گزری
جز تو در سینہ ام از تنگی دل طاہر بود
بازگرم در فرو س گر دا نبود
قد استادن بن ہر در خود سنج کہ سن
کایں ہم از شعبدہ آن قدر غما نبود
فتنہ حشر پائستہ عالی بجاں

بتج بربخ آگنسدہ و ہر سو بگرانند
از زلف و رخ آشوب دل بوالموسا
فریاد کہ ایں پردگیاں پڑہ در نہند
جاں دارو سے عشاق بکام از انجیا
وز ناز وادافتنہ صاحب نظر انند
صد حرف غلط گفتہ بخاطر نشانند
عمر ابد ما و نصیب دگر انستد
سازند و بسوزند و گرانند و ربانند
صد تیر خطا کردہ زول در گذرانند
ز نہار این قوم کہ فرستند گرانند

از چشمِ جاں میں پذیریاں لہلہ نظر را
ہر سوسے کہ بپنہ لبوسے نگرانند
آفتنگی آنکہ مستانِ نرہوش است
معدور تو ان اشت کہ آشفقہ سر نہند
حدِ نظر آنست کہ عدیش نتوان دید
پیداہت کہ این مدعیان بے بصر نہند
امید کہ از سازِ خبر و اشتہ باشند
دیوانہ و لاسے کہ ز خود بے خبرانند
حالی تو ہر حرف و صد کہ نہفت
سجند ویں بزم اگر نکتہ و نہند

عالم ہمہ در بند تمنائے تو باشد
گر صوفی و گرزند کہ شیدائے تو باشد
آتشِ دل صد خرم و ویراں کن شدت
برقے ست کہ در گریں شہلائے تو باشد
آں سادہ کہ در عمد تو خرسند بہ پیچ است
دل باخند لطفِ بدارائے تو باشد
خرسندے ساری عمگین پسندی
ناکام کسے کش بر سر سواتے تو باشد
نومید مکن دند محال است کہ کس را
یارائے غم جو صلہ فرسائے تو باشد
یارائے صوابت چہ کتمے لے جہاں را
سے رائے جہاں در گورائے تو باشد
تابِ تپ صد شعلہ و بیتابیِ صبر
ریزند در آں دل کہ تمنائے تو باشد
بر برگ تمم دل کہ علاجِ دل ہمید
شہط است کہ از لعلِ دل آسائے تو باشد
آنکس کہ بلزد تنش از مرده و پدار
دانم کہ مگر مرد تماشائے تو باشد
با حالی بیچارہ تو ان ساخت کہ میکن
ہم بندہ و ہم عاشق شیدائے تو باشد

ہر دم از عشقِ خدائے بے نشان سے آید
اندک اندک دلہم از غصہ بجاں سے آید
جاں گدازند بلطفِ بغضِ شادکنسند
ہر چہ خواہید ازین عشوہ گراں سے آید

بعد ازیں راز بصد پر وہ نہاں نتوان تہمت
 در بہاراں بہ تماشا کے گل انجا نرو می
 سوئے سن آمدہ مشتاق و نظر زنگش
 دوش چیزے ز سخن ثانی محبت نگذشت
 عجب از خود کتم و سوئے فلک مجہ نیم
 چوں نہ محرم اسرار بہاں در دل ناست
 یا چوں نیست موافق چہ و اع و چہ صال
 حالی زار گنستم کہ وفادار کسے است

شوئے بدوست را ہما و اشتم چہ شد
 عمریت دل بہ بند پیام وصال نیست
 در دست جام بادہ و در دل ہوائے دوست
 افتادہ زیر سایہ دیوار حشر تم
 سو در بیان خویش نہ بروے مرا ز جا
 یادم کنوں نمائندہ کہ پیاں چہ بودہ است
 کارم ز سعی خضر بجائے نہ سے رسد
 او اسگی بہ برو ہوا کے وطن زیاد

حالی خویش آنکہ بود ملر یکسہ بروفا

دو تھے بدل ز جو رو بقفا و اشتم چہ شد

لب بہرہ ز رازِ ما ندارد	خود ز مژمہ سازِ ما ندارد
ہر چہ صنیعتِ ست معبدِ بہت	یک قبلہ منسازِ ما ندارد
بزناکہ ما دلش نہ سوزد	آہکس کہ گدازِ ما ندارد
آں گوش کہ پُرزِ حرفِ صوت	گنجائیِ رازِ ما ندارد
کارم بہ کسے قنادرہ کز تاز	پروائے نیازِ ما ندارد
گر بہر دو جہاں سہرا ہم آرد	اندازہ آرزِ ما ندارد
حالی گلہ جھلے دوراں	صوتے ست کہ سازِ ما ندارد

دلے خواہم کہ چوں پُرانہ سوزد	فقد در آتش و مردانہ سوزد
زید آوارہ و میسر و بنا کام	دل اذر شکم بر آں دیوانہ سوزد
تنبہ کردست جو رہت شنایم	بحال من دل بیگانہ سوزد
بچنج خانہ شمعے من موزم	کہ چوں در گیرِ اول خانہ سوزد
دلے راکش بد فرخ سوخت نتواں	فروغے از رخ جانانہ سوزد
فروغ از من کسے جسز من بگریز	من آن شمعم کہ در ویرانہ سوزد
گراز من بشتوی او واد حالی	بچہمت خواب زیں افسانہ سوزد

غزل ناتمام

دو گستاں بلبل و درانجن پر و اندام	من بہر جامی نینگ مینج جانانہ ام
محریت نیست دل را با ہزاراں قربت	یا گرم آشنائی ما و من بیگانہ ام
خضر راہ منزل مقصود جسز توفیق نیست	زاین و آن پرسم نشان او کردیوانہ ام

عشق اگر کدیش ست ملت تا کہن خواہد شدن
 اگر عنان باد مصر اندکف جذب ال است
 عمر باشد تثنہ آب و م شمشیر تست
 سید گل ہر کجا پائے نگاہیں سے نہی
 شکوہ گر بلب نیاید عاقبت کیس سے شود
 صید تا انگنڈہ محو دست بانو کے خود است
 زینکہ شد ہنخواہ خسرو نیز ز نیم جو
 در غریبی طرح الفت انگنم باہر کے
 یار و کو چست من خاموش جاں بیتاب گر
 دوست پر تمکین و حالی از ادب بسیار و

نہیں ہر گوشہ از دار و رسن خواہد شدن
 رنگ یوسف جملہ بوسے پیر ہن خواہد شدن
 تیغ برکش و نہ جاں بیرون ز تن خواہد شدن
 جاوہ - چوں از سیر باز آئی تمین خواہد شدن
 زخم ما در ماں نباشد چوں کہن خواہد شدن
 ایں جواں روزے شکار خوشین خواہد شدن
 گرمی بازار شیریں کو کہن خواہد شدن
 و دل گبر و مسلمانم وطن خواہد شدن
 جذب و دل نیست کار دوست من خواہد شدن
 دیر با او ہم نشین و ہم سخن خواہد شدن

غزل ناتمام

بے نور صفا کے دل پہاں شدہ ہر پیدا
 گر با زوئے ہمت ہست دستے بگریاں زن
 تنہائی و رنجوری وانگہ غم مجوری
 شوئے مست کہ نگذرو برکت خود کس ما
 ساقی بہ تسرح بخشگی کو توبہ ما بشکن
 ہم باوہ و ماد م خور ہم بوسہ پیاپے وہ
 اسے بر نقاب از تست خود جلوہ حجاب از

اسے شب تو بہ پایاں اسے ہر نشانی
 و پائے ارادت ہست لختے بہ بیاباں شو
 اسے شکل من بچھا لے مردنم آساں شو
 اسے شیخ زویں برگرداے گبر سماں شو
 مطرب بنوا سنجی گور بہرن ایساں شو
 بے پردہ تراز گل کے چوں بچنے گل نساں شو
 از خود بچا پیوند و ز خویش بر آں شو

حالی بہ سخن - خواہی رفتن ز پئے غالب دولت نسلطہ نبود از سہمی پشیمان شو

نگر و ناز تو ہرگز سیری چشم تماشائی	اگر بر دیدہ نشینی و گرد دل فرود آئی
مگنجد ہا تو ایس ہنگامہ ہا در شان بختائی	تو چندین عالمے بانویشتن در ای تنہائی
ترا شایاں بود خوبی کہو ہمیری محبوبی	ترا زیدول آرائی کہ بد خوبی و زیبائی
تو چشم و گوش نکشائی و شد بہر تو ازائی	بگلشن چہرہ آرائی بہ طبل نغمہ پیرائی
نہ در بزم مغاں بہت نہ کوئی گندگاہست	تو اندر بند مستوری چو دانی ذوق بروائی
سیرہ خدا واری دل سے تھا واری	تو ز انساں میری ازہ کہ پندارند موئی
گو بہ بیگناہی مانے خود وارو جانے را	تو دست خود سخن حالی سکین نیلائی

تخمیں غزل نعتیہ جناب مرزا غالب مرحوم کہ در حیات ایشان فروشتہ شدہ بود

اعجاز از خواص لسان محمد است	عین الحیوۃ گم بہ بیان محمد است
گر نور و گر ہنسے کہ از آن محمد است	حق جلوہ گز طرہ بیان محمد است
آرے کلام حق بزبان محمد است	
ای خامہ صنف قامت معشوق کم نگار	لے دل سخن ز دست قدال میان سنا
قمری ز ذکر نفس را بنگا ہدار	و اعظ حدیث سایہ طوبے فرہ گزار
کایہ نچا سخن ز سروردان محمد است	
شاہد قبیل عاشق و عاشق بنجال خد	مجنوں پاپے لیلی لیلی بفرق خود

۱۵ یہ مصرعہ حضرت میرزا سخنوری سے لکھنؤ سے لیا گیا ہے جسکا پہلا مصرعہ یہ ہے تو فرمایا یعنی ای سرور تو جان بانی ای جان!

مومن بال احمد و آتش برینج جسد ہر کس قسم بد اپنے غریب است بخورد
سو گند کردگار بجان محمد است

آنجا کہ از مناقبِ عترت سخن رود و ز آل و از صحابہ و اہل بیت سخن رود
و ان کا نیمہ ز ختم رسالت سخن رود و در خود نقشِ مہر نبوت سخن رود

آں نیز ناموزن نشانِ محمد است

حکمش بہر و ماہ روان است چوں قضا دیدی کہ باز گشتنِ خورشید بر قضا
بودہ است بر اشارہ ابروئے معطفے بنگرد و نیمہ گشتنِ ماہ تمام را

کاسِ نیمہ جنبشے ز بہانِ محمد است

دانی ز پیشِ چشم تو بر خیزد و ار حجاب کز نور شمع پرودہ خانوس راست تاب
باشد ظہورِ روشنی عارض از نقاب آئینہ وار پر تو مہرست ماہتاب

شانِ حق آشکارا نشانِ محمد است

بینی اگر بدیدہ دراک و ارسی گونی اگر بجاہم اوراک و ارسی
سبھی اگر بترسہ خاک و ارسی دانی اگر بگسینی لولاک و ارسی

خود ہر چہ از حق است از ان محمد است

لطفِ خداست گر بگرہا دوست قہرِ خداست چون بر کین بکلمت
واند کہے کہ شذریے مادِ عینت است تیر قضا بہر آئینہ در تر کش حق است

اما کشا و آں ز کمانِ محمد است

ہمت بروج شمعِ عالی گماشتیم گفتیم و از نگاشتینی با نگاشتیم
چوں کام و لب فراخ و رو صفتش زندا ہم غالب نمانے خواجہ بہ زرداں گماشتیم

کاس ذاتِ پاک مرتبہ دان محمد است

رباعیات

توجید

دل دادہ شوقت چہ ولی تو چہ نبیؐ
دل از تو تسلی نتوان کرد بہ ہنچ
سودازدہ است ہم عجیبی ہم عسبرنی
اسے خوشتر از آب سرد و تشنہ پی

ایضا

یار بگیمے کہ شکر سارا آمدہ ایم
شاید ستہ و وزیر خیم و جویاے بہشت
سویا نہ ناکسی بہ بار آمدہ ایم
دریا بگیمے کہ پراسد و آرا آمدہ ایم

انزلاق

سر بر شکر از خاکِ پائے ہمہ باش
با نطقِ نیا سخن از خامی نشت
دلہا مختراش در رضائے ہمہ باش
ترکِ ہمہ گیر و آشناے ہمہ باش

دیگر

سز و بدوے و خاکِ پائے ہمہ باش
خواہی شوی آشناے بر گمانہ نما
دل وہ بہ سیکے و دلربائے ہمہ باش
بیگانہ آشنائے ہمہ باش

دیگر

اے آنکہ زحلہ صداقت عوری
کس از دل دشمنان خود دور مباد
بنشین بر یا منشیں - مجوری
چندانکہ تو از خاطر یاراں دوری

دیگر

لے پیچ بر پیچ خود نمائی تا چند
خود بینی و خوشین ستائی تا چند
چوں میدانی کہ جز کف خاک نہ
ہیں این ہمہ دعویٰ خدائی تا چند

دیگر

از شعر و سخن گو مشیں جہاں کجاوا
دیں شغفہ بیدہ کنتہ باوا
بر بر کہ دعایے بد کنمے گویم
یارب کہ گراں مایہ سخنور باوا

دیگر

چندے ہوائے گلخاراں بگذشت
لختے در بند روزگاراں بگذشت
بر نامہ کام دل شباب آخر شد
نشگفتہ گلے و نو بہاراں بگذشت

عزا

عباس علی و ابسر آن غیرت ماہ
بودند شبیہ احمد و شیر آلہ
در نوعہ این ہر دو جوان پر لب نشا
گہ و آفتابہ بود گہ واجدہ

در شکر یہ مہمان نوازی قاضی محمد خلیل صاحب بیلوی کہ در زمانہ قحط

در بر بلی گفتہ شد

ہر چند ز تیغ قحط خلقے مست قستیل
اوبکہ فلک بر خاکیاں گشتہ بخیل
اما چہ غم از قحط کے را کہ مدام
الو این نعمے رسد از خوان خلیل

در شکر لطف و عنایت سید کرامت علی مرحوم صفا پور

ہنگام وداع از پشیمالہ

حالی نشود مجوز لوح دل ما	لطیف کرم و دراع فرمود صفحا
گر قدرستان بغربت این است	صده بسفر سیر و صده زبان آ

در تاویل جراحی مولانا شبلی مدظلہ

شبلی کہ گزید پاش پرل سخن است	ہنستگیش خبثتگی مقنن است
چند اکہ بجا ہند فرزند اینچا	کار استن چمن ز پیر استن است

در تاسف بر وفات یکے از فرزندان ہمارا کہ کشن پر شاد و بہادر
ہزار المہام سرکار عالی متخلص پشاد

چرخ از پس فراغ بردش فراغ تہاد	اوجز بر سپاس ایزدی لب نکشاد
الحق کہ خصہ شاد و خندان بودن	زین گوشہ نہ دیاریم جز از حضرت شاد

رباعیات شکر شیرینی مرسلہ مولوی عبدالعسیٰ خاں والد
پروفیسر نظام کلج در حیدرآباد

دینم اخلاص و دستداری آئین	من بندہ دوستان اخلاص گنہین
شیر چینی کہ یار شیریں بنشد	بروے بتوان نشان جان شیریں

دیگر

والہ کہ بدمی نسرد یاد و نسرد	از غم وطن کرد دل حالی سرد
ہر سیرت نیک را توان یافت میل	جز سیرت والد کہ مرا والد کرد

دیگر

آبرو اول من صبر اول از پہلوئے من افسون و فنا و کریم اہل و کن
 رئیسوں دل و صبر اگر بغارت بیرند مشکل کہ رسم باغریباں بوطن

در شان نوح ابصار الدین احمد موم و صلوٰی مخلص بنیر و فارسی درخشاں و آرزو

عمرے ست کہ دہلی جسد بیجان است وز قحطِ رجال سربسرو بران است
 با صد شکر کوکب منخشفش روشن ز فرغ بنیر رخشاں است

خطاب بخصرت ممتاز موم

لے بیج تو فصیحکہ جہاں کرو مرا لطف تو خجل از این آن کرو مرا
 حُسنِ ظن تو کہ کردی اند حق من زابنائے زمانہ بدگماں کرو مرا

ایضاً

ممتاز آن آشنائے بیگانہ نما کہہ سخنش بھی چکے صدق صفا
 ناویدہ بجاں شوقِ بقائش موم گردست ہدجاں برش بھئے نما

ایضاً

اے پارسی زنجیرتات ذوق ایگز سے نظم تو چوں نثر ہمہ الفت نیز
 دیپروہ سخن گفستی و رخ نمودی بازار خود و آستشس با کردی نیز

سہ قاضی مت ز سید صاحب موم مخلص بہ متاؤویل و سبب پہلی بیت تھے اور پہلے کہند میں فنات نظم و شعر کے نام سے تھے اور
 انہوں نے قدروانی کی راہ سے چند باغیاں سیری نسبت غریزہ کر بھی تھیں لکنک جواب میں تین باغیاں جس نے بھی تھی تھیں

قصائد و قطعات غیر

قصیدہ۔ در مدح جناب غفران باب حاجی الحرمین الشریفین
نواب محمد کلب علیخان مرحوم رئیس مصطفیٰ آبا و۔ رام پور

اس قصیدے کی تمہید اُس وقت لکھی گئی تھی جب کہ شاعرانہ خیالات میں پہلے ہی پہل
انقلاب پیدا ہوا تھا اور مبالغہ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ انہیں فوں میں پہلا دیار
قصری منعقد ہونے والا تھا جو ۱۸۷۷ء میں بمقام وہی واقع میں آیا۔ جی میں آیا کہ اس
تمہید کے بعد کسی ایسے قصیدے کی بنیاد ڈالی جائے جس میں بقدر امکان مبالغہ سے احتراز
کیا جائے۔ چونکہ حضور نواب صاحب مدوح سے فی الجملہ تعارف تھا۔ اور انہوں نے سرسید
کی امداد میں سب سے پہلے سبقت کی تھی۔ اور دیدار میں اُنکے شریک ہونے کی قوی تمہید تھی
اسلئے انہیں کو اس قصیدے کا مدوح قرار دیا گیا۔ اگرچہ وہ علالت کی وجہ سے شریک
و بار نہ ہو سکے۔ اور قصیدہ اُن کی خدمت میں بوجہ درخواست پیش نہ ہو سکا۔

سحر گہ پروہ گرفتند چون از زشت از زیبا	بدل گفتم کہ میں نعمت آمد بر تر از نعم
بگفتانے در قدر از ہم بیش و کم نبود	ز ساقی عین رحمت داں اگر جرعه و کر مینا
و لے فرماند بیدار دل زین صل ستنے است	کہ چون اونے نتوان نشاندا و از پے دنیا
صالح عالمے بارے او و استگی وارد	جہاں را چون چمن میدان اورا چون چمن ہوا
رعیت را چنان وارد کہ وارد گلہ را چوپاں	غم دہا خود ز انسانکہ بازندگان غم کالا
بہ روز از او منطسوماں زمانے بر نیاساید	بشب چون پاساں بیدار باشد برورد ہما

قیماں را پدر و ارشک با از رخ فرو شوید
 اگر بیوه ز سنے نالد ز دست ناخدا ترست
 گدایاں را دہد بخشے کہ دہا را غنی سازد
 گھے بر ہم زندیک شہر بر فریاد منطلوے
 منطالم را بر اندازد جہاں از فتنہ پردازد
 ضعیفاں را تو اں بخشد منطلو اں امان بخشد
 گمارد چوں با صلح مناسد بہت خورا
 فروز شمع دین ز انساں کہ ظلمت از جہاں خور
 بصحت برگزیند بخشد در ان مصلحت جورا
 شریعت را اورا مرنہی دارد تکبیر خود
 نہ سازد تکبیر ہر بیچارگی جز بر نواناے
 نباشد غرۃ در سر نجگی بر زور بازوے
 گرام فرزند ہمہ سامان عیش و تخری بخشند
 جہاں را پر کند از عدل از طغیاں تہی سازد
 اگر از جاے خود جنبد زند صد فتنہ را ہم
 اگر لطف آورد آید بکام خلق شیریں تر
 و گر خشم آورد با مصلحت نزدیک تر باشد
 صلاح ہر یکے جوید چه در پیدا چه در نہاں
 بصورت ملقت اماند بند و جز بمعنی دل

غریباں را چو غمخواراں بر آرد خاراں از پیا
 بد و او را سندان پیش کاہد بر لبش آوا
 ضعیفاں را دہد زورے کہ پیراں را کند برنا
 گھے یک جاں ستاند تا امان بخشد جہاں را
 عدالت را بر افرازد ستم را افگند از پیا
 بہ محتاجاں چناں بخشد کہ حاجت را نما ندجا
 کند صلاح آن چنداں کہ سازد زشت زاینا
 ہنر را پرورد چنداں کہ گرد و عیب ناپیدا
 کہ پشتیبان ملک و دولت آمد صحبت و نا
 کہ چوں باشد عصار دست ہر رانہ لغویا
 کہ اکہم را بہ بخشد لطف و اعنے را کند برنا
 کہ کہ گم گم بجز ناند و ہدایت نہا
 نہ سازد بادش از تلخے اندیشہ فردا
 ہمہ مقصود او ایں باشد از دنیا و ما فیہا
 و گر خاموش بنشیند کند صد عقدہ از ہم و
 از آن انفاں جاں پرور کہ کوی مرورہ را بیجا
 از آن لطفے کہ شوید گرد و کیں از خاطر اعدا
 بود در بند احسانش اگر ناداں و گردانا
 بہ دنیا شتغل امانا باشد فارغ از غمے

بہ وقت اور ویار خویش سر بر پاشان کش
 اگر خواہی جماند سے نہیں بیدار دل بینی
 ویریں حین شہنشاہی کہ گوئی شاعر عیان
 سحاب مکت کلب علیجان آئجہ در عیش
 نیابی بیچکس کش پارگردن نیست احسان
 نہ تنہا صیت احسانش بہند افتاد و قطاش
 گر از لب بند بکشا پرودہ بر گوش ہا افسوں
 رُسخے روشن تر از مہر و سرے بالاتر از گول
 جبیں انوار اسکن خمیب اسرار را مخزن

ق

خوشا وقت سخن سنجے کہ چوں باج پر دازد
 کہ نہوہ بچو بیٹے سادہ بہرگز کارگردل
 دو صد اعراق با یک قول صادق بر نمواید
 بحد اللہ کہ من مراح آن سہ چشمہ فضل
 بہر فن پایہ اش والا بہر علمش بیطلوبی
 بہر منتزگش را ہے بہر کوشش گزگاسے
 بجائے گز ہنرمنداں کے راد شمار آید
 بوستے گزواں مرداں عزیزے در حساب آید
 بہر زے گز سخن سنجان حدیثے در میان افتد

و گرفتہ ہلک غیر در چشمان ہند کش جا
 بیا در خیمہ گاہ ویرں پناہ خسرو والا
 زمانے چشم دل بچشاہ بنکر عین اعیان را
 گدا از شاہ و مجلس از تو نگردارہ استغنا
 پیر و پستند مستغنی چه عزت گیر بے پڑا
 کہ شد آوازہ جو دوش بلند از شرب و بطحا
 و تاریخ پرودہ بردار و نظر بارا کند شیدا
 کفے ریزندہ چوں ابرو و لے جوشندہ چوں دیا
 بروں زیبا دروں روشن نے ہے صورت زہرے

نگہدار و عثمان خامہ را از جادہ ہر
 اگر صد بیت رنگیں و ستائش کہ کند نشا
 فان الحق یجلو کل بہتان و کلا یعلو
 کہ در فضل و کمالت ہر چه گویم باشدش زیبا
 بہر مزے دلش دانا بہر صیدے کفش گیم
 بہر جایش علم بر پا بہر اش قدم پویا
 ہنر نالد کہ من لی غیر فی الدین و الدنیا
 کہم گوید کہ مالی دولتہ منجی و کلا مالہ
 سخن بر بخوشین بلد کہ ما از شاہ و شاہ از ما

سخن را بر ترمی واوہ عبارت را ترمی اڈ
 معانی با نزاکت چون او با حسن ہم پیم
 رباعی شیوہ وارو کہ نتوان دید ورجا و
 رباعی طنبوی از برقی حافظ در گمان نت
 جزالت با قصائد تو اماں چون موج با کیوں
 عروج پایگاہ مصطفیٰ آبا و رانازم

او ارا دلبری واوہ تر ہے نشی زہے انشا
 بہانی با عذوبت چون صنایا دوستی ہم پیم
 غزل کیفیتے وارو کہ نتوان یافت و رہیم
 غزل بینی زنی برسنگ جام بادہ حمہ
 شگرتی با توانی ہمتاں چون موج باوریا
 کہ وارو این جنس فرمانرواے مہکت پیرا

ق

تو اے کرو عصف شیرازہ صفایاں قصہ رازی
 نہ پندارم کز نیساں دیدہ باشی در جہاں شہر
 بہر وگاں تلوع علم و حکمت چیدہ تو بر تو
 ہم از اہل صناعت کاملانش چار سو بینی
 فیثماں اجہتا و آثار و انایاں فراطوں
 گروہے از سخن سچاں کہ باشد زان ہمہ ہر یک
 بسویقتی بے از سخن کلران نکیسادم
 خوشا شہرے و فرخ شہر یاز نام بردارش

یے و مصطفیٰ آبا و زنتہ چشم دل کبشا
 ہنر استغظالرا سے دیں را لجا و ماوے
 بہر زہم اندوں روشن چراغ ملت بینما
 ہم از ارباب علم و فضل یابی فوج فوج
 جیکہاں شہرہ در علم و طبیبیاں عمل یکیا
 سخن را زندگانی بخش معنی را حیات افزا
 کہ نبود شاں چو بونصرے دیں کہ ہوسر ہمتا
 نگہدار و خدا این ہر دور از ناخوشش دنیا

ق

تو اے کز سیر بنگاہ سہراں ہندے آئی
 گرفتہ دیدہ از ملک و دولت بہرہ ور ہے

چہ آوردی بگواز جنس سنی از سخاں مارا
 ولے کم دیدہ باشی علم و دولت را ہم یکجا

۱۱۔ یہ خطاب ہے اس شخص کی طرف جو گویا کہ وہ باری میوں اور کثیری ممانوں کی ڈیروں اور میوں کو دیکھ کر واپس آتا ہے ۱۱۔

کشاد مستند پر روئے ہوا صد طبلہ عطاراں
بگلشن جلوہ ہر نونہا لے دیدنی وارد
کے کو با شد از پیرایہ علم و ہنر عاری

ق

الا سے آنکہ از حدش مر اطب اللسان دیدی
سزاوار ستایش گریہ تنہا سیم و زب بود
و لے باقر صورت حسن مستی جمع چون ہم
کہ در سلامیاں از جنس ایشان ہترے آورد
نوید اہل جہان آباد را کایں روزاں روز
ورود حضرت نواب در وہلی بدایں ماند
مر ایں نغمہ برب بود کاوانے بگوش آمد
توقع داشتیم از مقدم نواب دیں پرورد
و لے ناساز گاری ہائے بخت و از گوں نگذاشت
برو حالی نخل پیشہ کن در ہر خوش ناخوش
ہلال عید را گریسی و گریست نظر باشی
خدیوندا بحق آنکہ از اعجاز انفاکش

مشاعے کو کہ دریا بد شمیم عنبر سارا
و لے در خاطر بلبل مجنوب در گل رعنا
بچشم اہل دل ہیچ ہست اگر جمشید اگر دارا

نہ پنداری کہ فرماں و جاہم بروہ ہست از جا
نہیک کرد صد تیقاں روم از صفر آواز بیضا
نیارستم زباں بستن ز شکر و وہب یکتا
ہمال از علم لذت کش بچشم از مال سبے پروا
کہ نازد ہر قدر ایں بقعہ بنحو باشدش زیبا
کہ آپ رفقہ سوئے آبدایں باز آید از دریا
کہ پرتشد ساغر امر و زاناکا می نشروا
کہ روزے چند ایں یراندہ گردد خوشتر آندا
کہ کشت خشک مارا ترکند ابر کرم سربا
کہ سترے ہست پنہاں رخسار آن جگر کھو
فروغ از فرید آں در چشم و خرم دارو ایں دل را
بدست پاک اوشت حصارا کردہ گویا

۱۷۰۰ یہ اشارہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی طرف کہ یا صفر آواز دیا یا بیضاء غیری غیری یعنی اسے صفر آواز سے چاندی

برے سو کسی آمد کہ ہو کا دینا ۱۲۰۰۰ ایسے اشارہ ہے اس زمانہ کی طرف جبکہ نواب مدوح کے والد ماجد نواب

روف علیخان مرحوم دہلی میں بہ حالت طالب علمی بہتر تھے۔ اور نواب مدوح صغیر سن میں آنکے ساتھ یہیں رہتے تھے ۱۲۰۰

پہنچش این ہمت کہ تر نو از فیض گستر را
 نصیبے کامل از دنیا و از دین ہر نہ او نے
 مدہ اندوہ و غم را در دین خاطرش ہے
 کہ با جمعیتش وابستہ شد جمعیت دلہا
 و گر یاری دہد گر بخت وقت آن آندو ہم
 کہ یکہ برودش خود را ز غم چون تشہ بردیا
 تکلف نیست در ہر چہ از دعا و از ثنا گفتم
 تو دانی حال ہا یا عالم یا با جہم و الاختفا

قطعہ برفات از بیل نواب محمد علی خاں مرحوم متخلص بہ برسی خائف کہ
 حضرت نواب محمد مصطفیٰ خاں حرم اللہ رئیس جہانگیر آباد ضلع بلند شہر

دینغ از رحلت نواب رشتگی
 کہ بود اسید گاہ حالی زار
 بصورت گرچہ بود از دیدگان دو
 نبود از دل نہاں یک لحظہ زہنا
 بیاد صحبت دیرینہ او
 بے روشن تر از روزم شب تا
 زمرگ خواجہ گم کرویم صد حیف
 متلع کا سد خود را خسریدیا
 دینغ آن شاد باش و شادمانی
 دینغ آن کس مرغباں کس میا ز آ
 دینغ آن عید و صل گاہ گاہی
 کہ سے آمد پس از یک سال یک بار
 دینغ آن یاد صحبت بلے پیشیں
 کہ سے شد تازہ از انشا و اشعار
 دینغ آن یادگار عہد اسلاف
 کہ یاد از وضع شاں و لے بکودا
 قدیمیاں رائہ رائے از در خویش
 و گر بودند مجرم یا خطا کار
 بےم خویشتن نگرفت گاہے
 بجزے خشم بر خیل پرستار
 مقرر و اشت چون زرق مقدر
 بہر کس ہر چہ سے بخشید را درار
 چناں کایز و در رفتی نہ بند
 بجزے یا خطا سے برگنہ کار

مردنش گرچہ ہنگام نبود ست آما
عاقبت بوزے از این جرمه بیابانیت
مردو با خوشی تن از خلق بجز خیر نہ بود
اِس چہیں مرگ کو تر زیات جاوید

قطعہ رنوحہ وفات جناب مشیر الدولہ خلیفہ سید محمد حسین خاں مرحوم برادر خسرو وزیر الدولہ مغفور

آہ از مرگ مشیر الدولہ آہ	آں عباد قوم در کین حساندان
در سگاہ قوم را پشت و پناہ	وودمان پھول را حسبز زماں
آن بصورت اتس و وصیت ملک	آں بدنشس پیرو و جہت جوان
آں بہ تدبیر و حسرو بند چہر	آں بہ خرم و رائے سولون مل
آں بشورے یک مشیر سخت کار	آں بہ دیواں یک دبیر کارواں
در سیاست از مفاسد برکنار	در دیانت از تعصب برکراں
آنچہ ملت گدہ است از حلتش	بارغ خرم سے نہ بسیند از خزاں
آنچہ دولت را رسید از نضتش	کم رسد گزار را از مسرگاں
عمر ما باید کہ خیر شد مثل او	بچر دے از سر میں ہیکلیاں
در کراچی چون فرانش دست دا	بود گوئی آن نسراق جاوداں
ناگرفت درم ز سیر سنداہ	کو بس حلت کوفت زین بلوغ جانا
منتظر بودیم ازو پیغام را	کا مدہ پیغام مرشس ناگماں
جز نکوئی در خصاں او ندید	ہیچکس ہم در عیاں ہم زماں
در صفا آئینہ سترش چون فلکن	انڈیا پاکش نماں ہمچوں عیاں

آہ ازاں محسوم خادم پرورے
 مہرباں آراں پذیر ہر جنا دماں
 آہ آہ آں خواجہ سہ ماہاں نواز
 از کرم منت پذیر از میہماں
 آہ ازاں در شادی و غم پائدار
 آہ ازاں ز ناخوش و خوش شاد ماں
 قصہ کوتاہ بود یک فرد ز سپید
 کا مدہ از وصف او قاصر زباں
 از خورد پر سیدش سال حیریل
 گفت سال حلتش منحور دواں

قطعہ

تو اے کہ رونق پیشینیاں بہم شکست
 ز نظم و نثر تو کا نذر زمان گفستی
 چہ نغمہ ہا کہ بہ قانونِ فوق سنجیدی
 چہ بندہ ہا کہ باندا ز دلربا گفستی
 رسیدنشہ عرفاں چو ذکر سے رندی
 شکفت خاطر یاراں گرا ز صبا گفستی
 دویدریشہ بد لہا چو حرف مہر زوی
 دیدنخل متنہا چو از وفا گفستی
 گہر بہ بزم نشاندی اگر شننا خواندی
 اثر ز لفظ و ماندی اگر دعا گفستی
 ہزار عقدہ سربستہ باز بکشودی
 ہزار نکتہ پوشیدہ بر ملا گفستی
 زیر تفسیر و جمع قصہ را ندی
 ز سیر نفس و آفاق راز ما گفستی
 برآمد از دل بیگانگان ترانہ ذوق
 بہ محفلے کہ سخن ہائے آشنا گفستی
 لطیفہ ہا کہ بہ لفظ و بیان سے گنجید
 تو چوں فرشتہ ز غیب آمدی و گفستی
 بحق لطف کلاست کہ بہت بر دل ما
 کہ پایہ سخن افزا شستند تا گفستی

۱۵۔ جس موقع پر یہ قطعہ لکھا گیا تھا اس کے متعلق مفصل بحث یادگار غالب میں درج کر دی گئی ہے۔ اس قطعہ میں مرزا غالب مرحوم کی طرف خطاب کیا گیا ہے۔ اور جو مضامین اس قطعہ میں درج کیے گئے ہیں انکا اصل منبع یادگار غالب کے دیکھے اچھی طرح ذہن نشین نہیں ہو سکتا ۱۱

تو ای که هر سخن لغت ز تو بدل جا کرد
 هر آنچه گفته اند بر جواب عرض نیاز
 و لے بعربده از حرف چند با خویشم
 عجب که قاعد و دین نیاز مندی را
 عجب که چاشنی اندوز خاکساری را
 عجب که متغیله را از نقد ناسره اش
 نه راه حرف بسویت نه جانی من بدت
 اگر نه روستی سخن با تو بودی گفتم
 و یک شرط ادب نیست بر تو خرد گرفت

جز آن که در حق حالی بر مزو گفستی
 خطاب بود که بجایم اگر خطا گفستی
 که گزیده گفتند ام آخر تو از کجا گفستی
 سفیه و معجب و خود بین خود نما گفستی
 رهین ذوق نوا سنجی آنجا گفستی
 به زرق در گرد و عرض کیمیا گفستی
 جواب چیست اگر پرسم از کجا گفستی
 چگونه گفستی بچون گفستی و چرا گفستی
 هر آنچه در حق من گفستی بجا گفستی

قطعه دیگر

تو ای که صد فرستاده بسایه
 شکایتی که توان گفت عین افلاک
 نماز قاعده شکر بے ریایها
 چون شکوه جز به تقاضای دوستی نبود
 مرثت پاک دل صاف داده اندر
 خوش آنکه ساز کنم از تو شکوه بیجا
 خوش آنکه صد تو چو در کند مرا برین
 بر آن رسم که اگر مرگ امان پذیرد
 ز کوه تو به نایم ز گفته استغفار

منز که جان گرامی بر آن نشان کنم
 گرم تو دوست شمارم نه بر بار کنم
 اسای دوستی از شکوه استوار کنم
 ز غیر شکر و شکایت دوستدار کنم
 بحر فیلخ و لے خالی از غبار کنم
 تو اعتذار کنی و من افتخار کنم
 و گر به پیش تو تمهید اعتذار کنم
 ز کارمان جهان خلاص این کار کنم
 و گر سپاس تو پنهان آشکار کنم

ترجمہ بند

مرثیہ نواب مختار الملک سر سالار جنگ میر تراز علی خاں
 مرحوم مدار المہام سرکار عالی نظام کہ از طرف کمیٹی تعلیمی رتہ العلوم
 علی گڑھ اشاعت یافتہ

دہشت ہر کس زبانِ حقِ مختار الملک کا مدارِ خبرِ حلیتِ مختار الملک
 تا چہ افتاد پس از نعتِ مختار الملک بر سرِ شہادت و جمعیتِ مختار الملک

اے اہلِ گرتن بیجاں تہ خاکش سپری

نتوانی کہ نکونائیش از یاد بری

لشکر از ماتم او چاک گریباں شدہ است کشور از مرون او یکسرہ پشماں شدہ است
 اے بسا چشم کزین حادثہ گریباں شدہ است حیدر آباد تو گوئی ہمہ بے جاں شدہ است

اے اہلِ گرتن بیجاں تہ خاکش سپری

نتوانی کہ نکونائیش از یاد بری

منته ہست ازو بر سر کارِ نظام کہ بشکرش نتوان کردہ سال قیام
 ہم ازو یافتہ عدلیتہ و مالیتہ قوم ہم بدو شکر و ضابطہ پذیرفت نظام

اے اہلِ گرتن بیجاں تہ خاکش سپری

نتوانی کہ نکونائیش از یاد بری

آہ کایں مرد نہ مردیست کہ دماغ اورد ملک ازین دہلیہ لڑنہ در کال داور
 قوم ازین وقسمہ بگشت بہ نڈاں دار خاک و کسک و پس ایں پردہ چہ پنہاں دار

اسے اہل گرتن بیجاں تہ خاکش پُری

نتوانی کہ نکونامیشس از یاد بری

چشمِ سلام ازین غصہ بچوں تر گردید
 علمِ دین کہ نگوں بود نگوں تر گردید

لمت از حالت پیشینہ زبوں تر گردید

قیمت خواجہ پس از مرگ فزون تر گردید

اسے اہل گرتن بیجاں تہ خاکش پُری

نتوانی کہ نکونامیشس از یاد بری

دوست تا دشمن اوزو طمع یاری دشت
 دولتِ محمد ازو چشم و غاوری دشت

ملک از نیروے تدبیرش ستواری دشت

گردن قوم ز احساسش گرانہاری دشت

اسے اہل گرتن بیجاں تہ خاکش پُری

نتوانی کہ نکونامیشس از یاد بری

آہ ازاں بدلِ سماحت کہ نیابیش بہاں
 سپس از ہند چہیں مردنہ خیزو صد سال

آہ ازاں عقل و کفایت کہ نہ بینیش مثال

خاصہ از قوم کہ افتاد وراں قحطِ رجال

اسے اہل گرتن بیجاں تہ خاکش پُری

نتوانی کہ نکونامیشس از یاد بری

دلیگ گڈہ کہ نہاوند عزیزاں نہیاد
 تا بہستی بودایں قصہ رہاویوں آباد

در سگاسبے کہ ز طوبے بے شرش باد زیاد

خلق مرید جوان مردی او خواہد داد

اسے اہل گرتن بیجاں تہ خاکش پُری

نتوانی کہ نکونامیشس از یاد بری

کیست در ہند کزین غم لبِ حسرت نگرید
 کیست از قوم کزین غصہ گریبان دید

تا بہ جائیکہ چو این نالہ جا نگاہ شنید
حالی گوشہ نشین ہم ز جگر آہ کشید

اے جل گرتن بیجاں تہ خاکش پیری
نتوانی کہ نکو نایش از یاد بری

قصیدہ در تہنیت عید الفطر بجناب اب ہر آسماں عاہ بہادر مرحوم

صباح نوروز و عید شام تو باد	صباح روز و شب بکام تو باد
بر تو تہ خندہ و بکام تو باد	عید سال ہزار و سید و شش
آسماں منقش ز نام تو باد	شاہ نامیدہ آسماں جاہست
نظم اوستا تم از قیام تو باد	شاہ کت ملک را سپرہ عنان
خلق خرسند از نظام تو باد	شاہ از رائے شست فلخ بال
فیتنہ با مردہ از حسام تو باد	آزد و ناست زندہ از کرمت
از بقائے شہ و دوام تو باد	گنج معمور و ملک آبادان
محکم از پشتی نظام تو باد	قصر والا اسارین ملک نظام
خیرہ و سرکش است را ہم تو باد	ہر کہ در چار سوسے ملک نظام
عفت از خصم انتقام تو باد	شرساری عقوبتے است عظیم
خوشنما ہرچو لطف عام تو باد	در سیاست گروہ برابر ویت
یارب آن برق در نیام تو باد	برق تیغ تو خشک و تر سوزست
ہمہ در ضبط اہتمام تو باد	عدل ز انسانکہ وجہ بہت شست
شرع خیر الوزے امام تو باد	در قضایاے صعب ملت دین

در امور عظام دولت و ملک	بخداوند عتقاد تو باد
مقصد خلق طوف و رگه شست	پرسش حال شان مرام تو باد
ساز و برگ و عاے مظلومان	مایه عیش مستدام تو باد
برزبان خلق راستبایان	در دل حسرت احترام تو باد
اسے مدار المہام ملک و کن	فتح و ہما خود از ہمام تو باد
تا بنوشند باوہ اندر جام	باوہ خوش ملی بجایم تو باد
تا فشانند وانه در تہ دم	دل عالم اسیر دایم تو باد
ہر شیبے کہ ناگوار آید	دور پیوستہ از مشام تو باد
ہر نیبے کہ از جان خمینو	طرب اچیر در خیام تو باد
در جہاں ہر کہ بہت چون حالی	طالب کام و ناز و نام تو باد

قصیدہ در تہذیب صحیحی بجناب نواب اسرار آسمان حاجہ بہادر اللہ مہم کا عالی نظام

عیدِ اضحیٰ کہ قسریں باد و رودش ظفر	باد بفرج تہذیب عیدِ رمضان مستح تر
نائب سلطنت نواب بشیر الدولہ	عمدۃ الملک فلک جاہ امیر کبیر
آنکہ بر پانہ از نظم و سیاست حسن	کز پئے ملک سپر بودہ زہر فتنہ و شر
آہکے از لطف و کرم کردہ رواں شہر سے	کہ خسر و خوار الم تہذیبوں از کشور
آں سپہر شرف و مجد کہ در جاہ و جلال	پایہ اشس بر ترازان ہست کہ گنجد بفرگہ
آں میراوج کرامت کہ زوالا گہری	بے نیاز آمدہ از مدح چو ماہ از زیور

صاحبِ عادتِ قوم است کہ در مریح و ثنا
 ازل یکے جسز بہ رحمت نہ کشاید لب با
 و اں دگر پیشتر از مریح ستاید خود را
 جسے از شکوہ گردوں سخن آغاز کنند
 قوسے ز مریح گراہند در تشبیب و غزل
 بعد ازین طائفہ باشند کہ در وقتِ مریح
 گر قصیدت دگر تمنیت این ست شعرا
 شکہ جسز خوب کرم آلودہ ام اندر عمر
 لاجرم خامہ میں مرحلہ پرنایا بدست
 تمنیت خود بخنے بیش نباشد کہ در
 و ریخ محمدتِ خوب نہ راند حرفے
 و بہ عرض ہنسرخیش دکان بچشاید
 و رہ تشبیب و غزل روئے سخن آراید
 و رہند بر طلب جائزہ بنسیاد کلام
 آہکے از ماندہ تسبیض تو اور ار خورد
 دل رضا چوں دیدش کز تو عوض ارد چشم
 خامہ ز نیجاست کہ از غایت حیرت ندگی
 پس ہماں بہ کہ کند چشم سخن را بدعا
 تا کنند اہل سخن مریح ملوک و وزدا

ہر یکے ساز کند نغمہ بہ آہنگ دگر
 تا بداند کہ جسز مریح نہ دارد در سر
 تا فریب بدل ممدوح بہ اظہار ہنس
 کہ شکایت بود لا شکر بدل گتیر اثر
 کز نمک چارہ نباشد چو بخوردند شکر
 و مبدم حسن طلب جلوہ دہند از بر در
 فکے ستجاں را در مریح سخن نریاں کیر
 و ہین خویش بدداجی ممدوح دگر
 مے نہ داند کہ چساں طے کند این اہنگز
 چوں بگویند مکرر نہ بود ہر سچ اثر
 بتعلق کندش دہر ہر شہر ستر
 این خرافت نبود طبع زباں را در خورد
 یست این ز عمر نہ با جز بہ جوانی آہنگ
 کردہ باشد دگر از شرم و حیا قطع نظر
 و انکہ از نعمت تو بہرہ برو شام و سحر
 بر سپاس کہ از اں ہیچکیش نیست سخر
 اندیں مرحلہ نشناختہ پارا از سر
 کہ دم عجب نپاہد بہ دعا دحت گر
 تا ملوک و وزدا مریح فضل اند و ہنر

با د اوصاف تو از روح و ثنا مستغنی
گر چه با شنید به روح تو عزیزاں مضطر
با د رسایہ محبوب علیخاں امین
دولت آصفی از مرحدث فتیسنہ و شہر

قطعہ رسپاس لطف و کرم جناب کرنل مال راڈ و قتیکہ عثمان ادارہ
تعلیم پنجاب روست ایشاں بود

اولاً شکراً کہ فرمودی حاجت بندہ بے دریغ روا
ثانیاً عذراً کہ چندیں بار آدم از پے صدرع شما
اس شنیدی کہ گفت افلاطون رنج برو آہک در نکو نیہما
رنج او عاقبت بہ پایاں رفت لیک نیکی ہمیشہ ماند بجا
رہست گویم گزاردن نتواں حق لطفی کہ کر وہ بر ما
مے کنم ختم برو عا گفتار کہ نیاید ز بندہ غیر دعا

ترتیب ماہ ہائے جلالی در نظم

باز خوروا دست و شیرست امر و ادای جوان
باز شہر لویہ پس شہرست و آباں بعد از
باز خوروا دست و شیرست امر و ادای جوان
ہر یک از ماہ جلالی پیش تو کروم بیایاں

فرد

چیند خوان فتنے چوں سیر شد دل از جہاں
داوند آب زندگی اما پس از تریح روپ

شکر یہ سٹروٹن افسر محکمہ پربت از طرف عزیز می انشا اللہ تمام دیوبند

فرزانه امیر داد گروٹن	کز داد و کرم زمانه بنواخت
دستش بجزفت زود بره دست	آهرا که فلک ز پار انداخت
بنواخت بقتدر پایه او	آن را که زمانه قدرش شناخت
اصلاح اواره نمک کرد	ز انساں که ز بهر نخل بی پروخت
آوازہ فسگند دار گیرش	نماں گونه که وز دہرہ در باخت
ناخواستہ کام ماروا کرد	نما ساختہ کارمانے ماخت
از نسبیض نیاز مندی اوست	انشا کہ ز ناز کسر بر افراخت

قطعه برین دیوان منشی اقبال حسین صاحب متخلص بہ عاشق

جو اں مرد آنادہ عاشق کہ نیت	در ہسراں خود کس مر اورا قرین
نہ صیاد و ہموارہ از حسن جشلق	پے صید ازادگان در کیس
نہ سخار و پیوستہ ز افسون نطق	کش ز آشیای بازو شیراز عرب
ہے بارواز چہہ اش انبساط	اگر ہر بان بہت و گر شمشکیں
نہ بینیش کہ سر کہ برابر و اں	نہ یا بیش افتادہ چہیں بر چہیں
دو سال بہت کا فسون ہر وفائش	رہو دست صبرم ز جان حزیں
دلے دیر پیوندنا آشنا	کہ بودست فارغ ز ہر وز کیس
ندانم کہ عاشق چہ افسون مہید	کہ در باخت خود را بکسرش چہیں

سرخ ز آسماں بود وقت از زمین	بیرشته بیسات و ادم ز دست
که شد جلوه نسیب نایب و گزین	کنول رانم از طبع دیوان سخن
سخن شد همان و سخنور نہیں	درین روزا که مرد و شب زماں
بچسب از بود غیرت حور و عین	عروس سخن سے نیرزد بہ جو
کہ در دور ناسازگار سے چنین	صد آباد بر عاشق و حسرت مآب
فشان دست گنجینه از آستین	ز حسنی بہ بیگانہ و آشنا

قصیدہ در شان جناب تھاب میر جیبی امیر صیب اللہ خاں والی
 دولت خداداد افغانستان خلد اللہ ملکہ و قتیقہ سرائے سلا خط
 مدرسہ اجلوم در علیگڑھ نزول جلال فرمودہ بودند این قصیدہ در خوا
 ایشاں خواندہ شد بود

میزبانے راکہ شاہ ہے چون تو باشد میہماں	مے رسد گر فرق عزت بگذرد از فقراں
زین طرب کا مد بہ دیدارش امیر کامراں	گر بہ قص آید در دیو لہ کالج دور نیست
چون تو همان عزیز قصیر ہندستان	دولت بیدار نیست ماکہ شد ہمان ما
تا بدیدے پاپیش بالاتراز و ہم گماں	زندہ کاش امر خیز بودے بانی این ریگاہ
از قدم شدہ بچشم خویشین دیدے عیاں	تا ہمہ آیدنا کاندول خود بستہ بود
اسے چو باب نامدار خویش شاہے کارواں	اسے سر لہج ملت دیں اسے امیر ابن امیر
دستان عبرت ہمیشہ نہ گنجد در میاں	سنگ کا اندر تو تسلیم قوم آمد بہ پیش
جہل میکوشید تا نگذارد از دانش نشان	قصہ کوتہ جہل دانش سالہا در جنگ بود

دولت ہندار نہ ہو سے حامی این سگا
 شکر پتہ کز میاں بر فاست آن جنگ خلا
 عاقبت مقبولی کلج بدین غایت رسید
 شکر این کہ تہ نوازی کز قدم خوشستن
 گر نوید پایہ زان نیست یارائے قلم
 پس ہماں بہتر کہ گرد برد عا خستہ سخن
 تا ز تعلیم بہت و تلقین مین و نیار فرغ
 ملت افغان ز تدبیر تو اندر علم و فن
 آں چہاں کز نوع خود و زور و طاقت برتر
 تا بود خیر و صلاح خلق در صلح و وفاق
 اتحاد و دولت ہندو خنداد او۔ امیر

کو ششیش بانی ہمہ بر باد و ستبے رگھاں
 جملہ بستند بر اعدا و این کلج میاں
 تربیت گاہ غریباں شد کز رگاہ شہاں
 اہل کلج را فرمودی آبرو و عستہ و شہاں
 و رہگو بداند کے زان نیست شیر و زباں
 زانکہ ناپید جزو عا کے خواجہ از مابندگاں
 تا بود وابستہ با علم و عمل نظم جہاں
 گوئے سبقت بروہ۔ باو از جملہ ایتانے زباں
 ہچہاں در علم و حکمت باو ممتاز۔ از جہاں
 تا نہماں دوستی با او در امن و امان
 باو مستحکم بیان اتحاد جسم و جاں

در شکر یاد آوری عالیجناب ہرمانیس امیر الامرا از بیل نواب سید علیچاں
 بہادر مستعد جنگ عالی ریاست ام پورم اقبالہم

کیست یارب کز دل آزادگاں
 کیست کز ذکر ہمیشہ جہاں
 کیست کز ذوق شنائش و روز آ
 کیست کز عصیت نوالش چارسو
 کیست کز رویش بر افتد گر نقاب
 کیست کز وجودش چو از فوارہ آب
 ہر کے ناویدہ میخواند کتاب
 خامہ نے قصہ چو برق اندر سحاب
 قافعاں راوردہن گردیدہ آب
 گوئی از مشرق بر آمد آفتاب

کیست کز خویش اگر حرفے رو	دقت اخلاق شوقی باب باب
کیست کز وصفش اگر جویش نام	وزندماں ہر دل فرود آید جواب
شد نشان حاکم علیخان آنکہ نیست	جز نمودار سے ز رویش ماہتاب
روئے او نور ضمیرش را گواہ	رستے او رو سے منیرش را جواب
خوبے او آمد و لیل خوشے او	گردیلے باہریت زوڑو متاب
کیست کز اکیس اگر پرسی نشان	بشنوی خاک و کس نشان دل جو
چوں ز خلوت پانہد در جلوہ گاہ	یا کند در بزم جمعے را خطاب
چشمہا از گوشہا سبقت برو	گوشہا بر چشمہا آرد شتاب
بروہ رہ گوئی بہ آب زندگی	ہر کہ از لطف کلاش کامیاب
جاوواں ہاندہ ز راحت نصیب	ہر کہ از اعراض او پر پیچ و تاب
بر دلم نا دیدہ بندہ مہر او ست	اے خوشا ز رزے کہ بر خیزد حجاب
مہر باں بر خود گمانش کردہ ام	تا چہ بسیر کرد این فرخندہ خواب
اے سلف رامیوہ نخل امید	و سے نیاگاں را دعائے ستیاب
در جہاں باشی سلف اجانشیں	تا خلف زیشاں بود نام ستیاب
نام آبا زندہ باو از نسبت	تا پس جوید با با انتساب
تا حساب از عمر و از دولت کنند	دولت و عمر تو باو اے حساب

۱۰ منشی کے چند سال بعد تو اب سچ خاک کو پھیر میں یاد فرمایا تھا۔ اس وقت اول یہ قطرہ بھیجا گیا تھا اسکے بعد راقم غور

تذکرہ

مرثیہ جناب طالب جواد والد اول عارف جنگ ڈاکٹر سر سید احمد خاں غفرلہ

بند اول

آہ ازیں تیر گذار اکڑ کماں انداختند
 آہ کزیک زخم قومے نیم جاں انداختند
 اسے عجب کز رحلت فردے زافر اوبشر
 علمے راز قیامت در کماں انداختند
 اسے عجب کز مردن یک پیر مرد سالخورد
 تاب تپے رکود کپیر و جوان انداختند
 اسے عجب کز سوز اندوه و فات مسلمے
 مردم کمرش را آتش به جاں انداختند
 سبیل اند قوم نقدے بود اند کیسہ
 کیسہ خالی ماندہ و نقد از میان انداختند
 قوم را سرمایہ مجد و عکلا از دست رفت
 بعد ازاں کایں گنج را در خاکداں انداختند
 نو بہا آید و گرد بلغ قوم سید نیست
 بعد از طرح خسراں جاوواں انداختند
 تا قیامت گوی از تاراج ما فارغ شدند
 کایں مصیبت بر سر سلامیاں انداختند
 اہل دیں بے یار و دیں سبکیں بے یار ماند
 ہر گہ ایں آوازہ در ہندوستان انداختند

رفت و با خود رونق بزم سلمانی بیرو
 ملت از مرگش پشتر مرد سلمانی بیرو

بند دوم

آہ از مرگ و ہر شوب سبیل آہ آہ
 آہ کہ در ہر ناطق قوم را بود سے پناہ
 عہد یاری کا و بملکت دین دولت بستہ بود
 تا از تن جاں بر نیامد و اشقتے و ائم نگاہ
 مشکل باریاں اگر بود سے بمطوفان نوح
 بر مشال کشتی نوح اندر و کوسے شنہا

عمر با کوشید تا شوید غبارِ سُو بر نطن
 چاره با انگینت تا طرح صد اوقت افگند
 کاروان قوم دور افتاده بود از راهِ راست
 در مصافِ دہر بودن دین ملت را سپر
 سید القوم است ہر کس قم را خدمت کند
 گرچہ از نامے تواند صد چوسید آورد
 گر نشیند از رعیت بر دل ارکانِ شاہ
 در میانِ حاکم و محکوم و سالار و سپاہ
 رفت و ادبے را بہ برگداند و آورش بر
 حج او این بود و آیش صوم این کوشش صلاہ
 خدمت او بر سیاوت پس بود اورا گواہ
 آئینہ عمل آرزنگ لالہ از خاکِ سیاہ

یک قومے کہ فرزندِ نشیبِ افتادہ اند
 باز ہرگز در دنیا بند آنچہ از کفِ داوہ اند

بند سوم

میتوان در فضل و دانش شہرہ دور شدن
 میتوان در جاہ و ثروت گوے از قارون بجز
 میتوان در ملک و دولت خسرو پرور گشت
 میتوان قطبے مان شد میتوان شد غوثِ وقت
 چیت انسانی تمپیدن از تپ ہمایگان
 خوار دیدن خویش را از خواری بنائے جنس
 آتش قحطی کہ در کنعان بسوزد بلع و کشت
 زیستن در سکر قوم و مرون اندر بند قوم
 میتوان مقبول عالم گشت اما بچو شیخ

در فصاحت بچو سبحان در حسن و تقاضا شدن
 میتوان در زہد و طاعت غیرت صنعاں شدن
 میتوان در زور و طاقت رستم و ستاں شدن
 ہرچہ خواہی میتوانی شد بجز انساں شدن
 از سموم نجد در باغ عدن پڑماں شدن
 در شبستان تنگ دل از محنت زنداں شدن
 بر فراز تخت مصر از تاب آں بریاں شدن
 گرتوانی میتوانی سید احمد خاں شدن
 بہر سو و خلق مرد و وہاں نتوان شدن

چو را خوال دیدن و در عشق اخوال زیستن

زخم پیکان خوردن و مشتاق پیکان زبیتن

بند چہارم

درشس جھے پقلید ہرپ ہمت تاختند
 زود دستند کایں سودانہ ہر سر را سوز
 کار کار شیر مردان ست کز سوز ووش
 سیتل از رہ تا دم آخر عیاں را بر تافت
 بوویا راں ز سپر تا بود - در ہر شور و شہر
 خواجہ در فکر صلاح دین ملت در گذشت
 جز ماست ہیچ ننوشتند مژو خدش
 آسے از عالم ندیدستند جز جو روجنا
 آومی و انگہ ز قوم مرده خیزدے شگفت

لیک چوں رفتند گامے چند دل فریاختند
 اہل دعویے کاندیس میدان علم افراختند
 بزم را افروختند و شمع ساں گداختند
 گرچہ در دانش بسے خار و خشک انداختند
 لیک یاراں بر شش تیغ جناسے آختند
 لیک اہل دین ملت قدر او شناختند
 چوں بنامش قرصہ در رفد نخست انداختند
 آن چواں مرداں کہ کار اہل عالم ساختند
 کایں جہاں مردمی زیر آب گل چوں ساختند

حیف کاندہ جمع مستان ہوشیاسے بود رفت

در زمین شور و شعلے بار بار سے بود رفت

بند پنجم

گوئے از گردش فرو مانده است چو گل راچہ شد
 وہ بہ ویرانی کشد وقتست دو ہفتانش کجاست
 چہرہ شد سہرا بہ ہاں - کستم دستان کجاست
 تارک بہر کس ندارد تاب گرز روزگار
 قوم را بہم عتاب و چشم رسم از کس نماند

کشتی از جامے نہ جنبید - موج عیاں راچہ شد
 گلہ سرگرداں شود زود دست چو پاں راچہ شد
 یافت فرصت اہرمن - مہر سلیمان راچہ شد
 بر بنیاد ہر سے ایں تپک - سندان راچہ شد
 آن لب نقریں سزا - آن چشم گریاں راچہ شد

پند ایں شیریں بیان فرمیکر دہر دل
شد خزان و از بہار ان نسبت یاروں را خیر
اں زبان تلخ گو۔ اں تیغ عریاں را چہ شد
اں بہار بے خزان بزم یاروں را چہ شد
اں کلید قفل دل اں لعل خندوں را چہ شد
اں کلمے بختید جاں اں باد نور زنی کجا
آئکھے مے باریدہ در اں ابر نیساں را چہ شد

اے صلیکدھ آنکھ کر دت شہرہ در امصار کو
آئکھ از خاکت بگردوں برو اں مسمار کو

بند ششم

اے ازاں در بیشہ صدق صفا شیریاں
آئکھ چوں دریا نبودے تیرہ از باران سنگ
اے کور دست بہ پخت منتہم از راستی
یار پز علمش نبود و علم وانی نا در ہست
بعد سیتل کر بنفائے قوم گذشت از وفا
خانہ اش وانی کے مہاں سرے قوم بود
بعد از و کایں دست را گلزار کرد و رفت کہیت
سعی ما مشکل نہ بعد از خواجہ مانا بر قرار
جیش را نقد این سر عسکر خطر دارو خطر

آئکھ در سر و علن بوشس یکے دل بازیاں
آئکھ از عرش نہ گشتے صورت کوہ گراں
اے ایں باشند درین عالم نہرے رستاں
این نہیں بے کس سرور کہ جہل پڑا نہ جہاں
کہیت تا با شہ بر ایں نامہر باناں مہراں
کہیت مر ایں مہماناں ایں پس نیزیاں
ایں بنا مارا عنماں۔ ایں باخمارا باغیاں
جنش از لبت مجو۔ لعل چہرین رفت از میاں
گلہ را بگسترن از چوپاں زیاں اروزیاں

مہرواں را بعد از ایں یارب لعل اہ کہیت
دیگر ایں بے دو تان را یار و دستخواہ کہیت

بند ہفتم